



## سوال

(161) رکوع سے اٹھ کر مقتدی کا ”اللهم ربنا ولك الحمد،، یا ”ربنا ولك الحمد الحمد اکثر اطلبنا مبارکافیه،، کہنا

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

رکوع سے اٹھ کر مقتدی ”اللهم ربنا ولك الحمد،، یا ”ربنا ولك الحمد الحمد اکثر اطلبنا مبارکافیه،، جو کہتا ہے کیا اس دعا کی کسی صحیح روایت سے ثبوت ہے؟ اور کیا اس دعا کا بلند آواز سے کہنا ثابت ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ایک صحیح اور معتبر حدیث ((بخاری کتاب الصلاة باب فضل اللهم ربنا لك الحمد 1/193)) میں ہے کہ فرض نماز باجماعت میں آنحضرت ﷺ کے پیچھے ایک مقتدی صحابی نے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بلند آواز سے ”ربنا ولك الحمد الحمد اکثر اطلبنا مبارکافیه،، کہا، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اس کا انکار و تنبیہ نہیں فرمائی، بلکہ ان کلمات کی فضیلت بیان فرمائی، پس اگر کوئی مقتدی ایسا کرے تو ہم کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ (محدث بنارس شیخ الحدیث نمبر 1997ء)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 1

صفحہ نمبر 254

محدث فتویٰ